

کلیدی ترجیحات میں پیش رفت کے حوالے سے، سٹی آف برامپٹن 2022 کے صوبائی انتخابات**کے امیدواروں کی حمایت کرتا ہے**

برامپٹن، آن (25 مئی 2022) – مورخہ 2 جون کے صوبائی الیکشن سے پہلے، سٹی آف برامپٹن کی گورنمنٹ ریلیشنز ٹیم اور کونسل کے ممبران، سٹی کی اہم ترجیحات کو آگے بڑھانے میں مدد دینے کے لیے اپنی وکالت جاری رکھے ہوئے ہیں۔

سٹی کی اولین ترجیحات میں درج ذیل شامل ہیں:

- مین اسٹریٹ سے برامپٹن GO کے ساتھ، لائٹ ریل ٹرانزٹ (LRT) کے لیے فنڈنگ کا حصول
- کوئین اسٹریٹ ہائی وے 7 بس ریپڈ ٹرانزٹ (BRT) اور دیگر مقامات سے رابطے بنانا
- ای بس فلیٹ کے لیے تیسری ٹرانزٹ سہولت گاہ کو الیکٹریفائی کرنا
- روڑ واک پروجیکٹ – سیلاب کے خطرے کے طویل مدتی حل
- برامپٹن میں صحت کی دیکھ بھال کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے عزم (ہیل میموریل کی توسیع/تیسرا ہسپتال/کینسر کی دیکھ بھال)

حکومت اونٹاریو سٹی کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے۔ صوبے سے ملنے والی فنڈنگ برامپٹن کو ایک جامع، صحت مندانہ اور ماحولیاتی طور پر قابل استحکام شہر بنانے میں مدد دیتی ہے اور رہائشیوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ سٹی کی صوبائی سطح کی ترجیحات کے بارے میں مزید [یہاں](#) پر پڑھیں۔

اونٹاریو میں 2022 کے صوبائی انتخابات 2 جون 2022 کو منعقد ہوں گے۔ رہائشی ووٹنگ کے بارے میں مزید معلومات [یہاں](#) پر حاصل کر سکتے ہیں۔

اقتباسات

"برامپٹن کینیڈا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور سٹی کونسل اپنے ٹرانسپورٹ کے نظام کو وسعت دینے، پائیدار انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے اور اپنے رہائشیوں کے لیے ہسپتالوں میں بھیڑ میں کمی لانے اور ہال وے میں علاج کیے جانے کی مجبوری کے خاتمے کے لیے پُر عزم ہے۔ میں اپنی کمیونٹی کے تمام اہل ووٹروں سے 2022 کے صوبائی الیکشن میں 2 جون کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہماری اولین ترجیحات اور حکومت اونٹاریو کے فنڈز کے بارے میں مزید جانیں۔ ہم کامیاب امیدواروں کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کی گورنمنٹ ریلیشنز ٹیم، حکومت اونٹاریو میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پُر عزم ہے تاکہ ہمارے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہم صوبے کے ساتھ مل کر ایک جامع، صحت مندانہ اور پائیدار شہر کی تعمیر کا عمل جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔"

- پال مورینسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابلِ دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca